

49046- کیا بعد میں آکر جماعت کے ساتھ شامل ہونے والا شخص امام کے ساتھ زائد رکعت شمار کرے گا؟

سوال

اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو، اور امام بھول کر ایک رکعت زائد ادا کر لے تو بعد میں آکر ملنے والا مسبوق شخص کیا کرے، آیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے یا کہ امام کی سلام کے بعد ایک رکعت ادا کرے؟

پسندیدہ جواب

بلکہ یہ شخص امام کے ساتھ سلام پھیر دے کیونکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، لیکن امام اس زیادہ رکعت میں معذور ہے۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے
درج ذیل سوال کیا گیا:

اگر امام بھول کر پانچ رکعت پڑھا دے
تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والوں کا حکم کیا ہے؟

آیا بعد میں آکر امام کے ساتھ ملنے
والا شخص زائد رکعت کو شمار کرے گا؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

”اگر امام بھول کر نماز میں پانچ
رکعت پڑھا دے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور جماعت یا سو کی حالت میں اس کی متابعت
کرنے والے کی نماز بھی صحیح ہے۔“

لیکن جب زائد رکعت کا علم ہو تو جب

امام زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو اس پر بیٹھنا اور سلام پھیرنا واجب ہے، کیونکہ اس
حالت میں اس کا اعتقاد ہے کہ اس کے امام کی نماز باطل ہے، لیکن اگر اسے خدشہ ہو کہ
اس کا امام زائد رکعت ادا کرنے کے لیے اس بنا پر کھڑا ہوا ہے کہ کسی ایک رکعت میں
مثلاً اس کی قرأت فاتحہ میں خلل پیدا ہو تو اس صورت میں اسے انتظار کرنا ہوگا وہ
سلام مت پھیرے۔

لیکن وہ شخص جو امام کے ساتھ دوسری رکعت یا اس کے بعد شامل ہوا ہے تو اس کے لیے یہ رکعت شمار ہوگی، چنانچہ جب وہ امام کے ساتھ مثلاً دوسری رکعت میں شامل ہوا تو زائد رکعت ادا کرنے والے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے۔

اور اگر وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا ہو تو زائد رکعت ادا کرنے والے امام کی سلام کے بعد ایک رکعت اور ادا کرے، یہ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بعد میں آنے والے شخص کے لیے زائد رکعت شمار نہیں ہوگی تو اس سے جان بوجھ کر عہد ایک رکعت زائد ادا کرنا لازم آئیگی، جو کہ نماز کو باطل کرنے والی ہے، لیکن امام زائد رکعت میں معذور ہے، کیونکہ وہ بھول گیا تھا چنانچہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اھ

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (14)
(20/).

واللہ اعلم.